

قضا عمری کا ثبوت

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ قضا عمری کا حکم کیا ہے اور قضا عمری کہاں سے ثابت ہے۔ کیا اس پر کوئی قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے؟

سائل: اوپس - انڈیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَجْوَابُ بَعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

قضا عمری کوئی علیحدہ سے نماز نہیں بلکہ ماضی میں قضا ہونے والی نمازوں کو ادا کرنا ہے اور قضا نمازوں کو پڑھنا فرض ہے تاکہ اس پر کوئی قرض باقی نہ رہے اور اگر اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے نماز قضا ہوئی تو اسے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سچی توبہ کرنا بھی واجب ہے تاکہ قضا پر ملنے والا گناہ بھی معاف ہو جائے۔

قضا نمازوں کو ادا کرنے کا حکم تو کئی احادیث میں موجود ہے جیسا کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، سراپا رحمت، محبوب رب العزت عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا" جو نماز کو بھول جائے یا سوجائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے پڑھے۔

(الصحيح المسلم باب قضاء الصلوة الفائتة رقم الحديث ۶۸۴)

اور بہار شریعت میں ہے کہ فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السلام فرماتے ہیں: سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھے تاخیر مکروہ ہے۔

(بہار شریعت حصہ ۴ ص ۵۰)

اور درمختار میں ہے: (وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الْفَوَائِتِ) وَإِنْ وَجِبَتْ عَلَى الْفَوْرِ (الْعُذْرُ السَّعْيِ عَلَى الْعِيَالِ؛ وَفِي الْحَوَائِجِ عَلَى الْأَصْح)

قضا نمازوں کو اگرچہ فوراً پڑھنا واجب ہے مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے۔ (لہذا فرصت کا جو وقت ملے اُس میں قضا پڑھے)۔

(دُرِّمُخْتَار، ج ۲، ص ۶۴۶)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

## PROOFS FOR QAZA UMRI

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

### QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: what is the shari' ruling regarding Qaza Umri (performing qada [makeup] for all the missed prayers in your life time) and where is it proven from? - Is this proven from either Qur'an or Sunnah?

Questioner: Owais from India.

### ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

Qaza Umri salaah is not a separate prayer rather these are all the previous prayers which were not performed, and they all must be prayed. To perform all the missed prayers is Fard (obligatory) so that no debt remains. If one misses prayers due to one's own laziness then as well as performing those prayers, it is necessary for one to make sincere/truthful repentance so that for those missed prayers one may be forgiven from the punishment which one will have to face for missing prayers in such a scenario (laziness).

The ruling of performing Qaza Umri prayers have been mentioned in numerous Ahadith, for example the King of Prophethood, the Embodiment of Generosity and Mercy, the Beloved of the Honorable Sustainer (عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) has stated:

" مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا "

Translation: "Whosoever forgets a prayer or sleeps through it, so his expiation is that whenever he remembers then he must perform it."

(الصَّحِيحُ الْمُسْلِمُ بَابُ قِضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِيَةِ رَقْمُ الْحَدِيثِ ٦٨٤)

And it is cited in Bahaar e Shari'at that the noble Scholars of Jurisprudence have mentioned:

"If due to forgetfulness or sleep one missed a prayer so to perform that prayer is Fard (obligatory), However, the sin of missing that prayer will not be upon him,

Whereas being awake and upon remembering, bearing in mind that it is NOT currently the makrooh time, he should pray at that time, to delay even more is Makrooh (disliked)."

(بہار شریعت حصہ ۴ ص ۵۰)

Furthermore, it is stated in Durre Mukhtaar:

"(وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الْفَوَائِتِ) وَإِنْ وَجِبَتْ عَلَى الْفَوْرِ (لِغَدْرِ السَّعْيِ عَلَى الْعِيَالِ؛ وَفِي الْحَوَائِجِ عَلَى الْأَصْحَ)"

Translation: "Even though performing missed prayers immediately is necessary, However, if one is occupied with the upbringing of one's children and one's own necessities /requirements of life, then to delay the missed prayers is permissible."

(This is why whenever one has the opportunity, one should perform it then.)

(دُرْمُخْتَار، ج ۲، ص ۶۴۶)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

**Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri**

Translated by Bilal Shabir